



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 2022/7/15

ریاست نیویارک اور نیویارک شہر کے لیے منکی پاکس کی ویکسین کی اضافی 32,785 خوراکیوں پر گورنر
KATHY HOCHUL کا بیان

"اس سے قبل آج، میں نے یہ یقینی بنانے کے اپنی جاری کوشش کے جزو کے طور پر وائٹ ہاؤس کے ڈاکٹر Ashish Jha کے ساتھ بات کی تھی کہ نیویارک کو منکی پاکس ویکسین کی فراہمی میں اپنا منصفانہ حصہ ملے، خصوصاً ان نیویارک کے ان علاقوں کے لوگوں کے لیے جہاں پھیلاؤ کی شرحیں زیادہ ہیں۔

"ریاست نیویارک اور نیویارک شہر کو آج تک 28,000 سے زائد خوراکیں پہلے ہی وصول ہو چکی ہیں، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ اب اگلے ہفتے ویکسین کی مزید 32,785 خوراکیں موصول ہوں گی تاکہ ہماری سب سے زیادہ خطرے کی زد میں آبادیوں کی ضروریات کا جواب دینے اور ان کو پورا کرنے کی ہماری کوششیں جاری رہیں۔

"جبکہ ملک میں رسد ابھی بھی محدود ہے، ریاست نیویارک اضافی تفویضیں کروانے کے لیے اپنی انتھک وکالت جاری رکھے گی، جو منکی پاکس کے کیسز کی غیر متناسب تعداد کے پیش نظر، نیویارک کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں، خصوصاً ہماری LGBTQ+ برادریوں میں، جو خاص طور پر بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے کہ نیویارک کو منکی پاکس کی ویکسین کا مناسب حصہ ملتا رہے۔ ہمارے منکی پاکس کے مجموعی ردعمل کے ایک جزو کے طور پر، میں اور میری ٹیم نیویارک کے مکینوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ممکن ویکسینز کے حصول، ہماری LGBTQ+ برادریوں میں وسائل کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانے، اور تازہ ترین ٹولز اور معلومات کی تقسیم کے لیے چوبیس گھنٹے کام کرنے کے لیے پُر عزم ہیں۔

"میں ویکسین کی اضافی خوراکیوں کے حصول میں مدد کرنے پر صدر بائیڈن، ڈاکٹر Jha اور دیگر سرکاری حکام کی شکر گزار ہوں، اور میں اپنی حساس ترین برادریوں کے تحفظ اور نیویارک کے مکینوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کی منتظر ہوں۔"

###

اضافی خبریں یہاں دستیاب ہیں www.governor.ny.gov
ریاست نیویارک | ایگزیکٹو چیمبر | 518.474.8418 | press.office@exec.ny.gov